



ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا کیا فلاں نے، فلاں نے؟ یہاں تک کہ جب ایک یہودی کا نام آیا، تو اس نے اپنے سر سے اشارے کیا (کہ ہاں)، یہودی پکڑا گیا اور اس نے جرم کا اقرار کر لیا نبی کریم ﷺ حکم دیا کہ اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ایک یہودی نے چاندی کے زیورات کی لالچ میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس یہودی کو قصاص میں قتل کیا

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ کے زمانے میں ایک لڑکی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا اور اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی لوگوں نے اس کے قاتل کے بارے میں تحقیق کرنے لیں، اس کے سامنے ان افراد کے نام گنانے شروع کر دیے، جن کے بارے میں اس بات کا گمان تھا کہ وہ اس کو قتل کرسکتے ہیں، تا آن کہ ایک یہودی کا نام لینے پر اس لڑکی نے اپنے سر سے مثبت اشارے دیا کہ ہاں! اسی شخص نے اس کا سر کچلا اور چنانچہ وہ اس کے قتل کا ملزم قرار پاگیا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے جرم کا اقرار کروایا، تا آن کہ اس نے اس لڑکی کو، اس کے چاندی کے زیورات کو حاصل کرنے کی غرض سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا لہذا نبی ﷺ نے ”جیسے کو تیسرا“ کے اصول کے مطابق، اس کو سزا دیتے ہوئے اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دینے کا حکم دیا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2943>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

